

صحت کی اہمیت

اسلامی تعلیمات کے روشنی میں

محمد یوسف گودا

علم طب اور اسلام:- طبی نقطہ نظر سے اسلامی تعلیمات پر لٹکنے والی جانے تو عربی کے اس بھی
لئے مذاقت پر یقینی آنے لگتا ہے۔ العلم علمن علم الادیات و علم الابدات علم دو ہیں جیکیت ملہی دو ہیں
اور دوسرا علم بدن۔ کتب طب میں اس قسم کے جملے اسلامی تعلیمات میں صحت کی اہمیت پر واضح روشنی

۱۔ علم طب پر اکثر کتابوں میں یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے۔
جو صحیح نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ حضرت امام شافعیؓ کا قول ہے۔ ابوالحسن علی ہبی عبد الحکیم
بن طرخان بن تقی الحموی ملا ماریم الدین المکمال (۴۵۰ - ۷۰۰ھ) نے انہی تصنیف (الاحکام النبویة
فی الصناعة الطبية، طبع ف مصر ۱۳۲۷ھ / ۱۹۵۵ء) میں اس پر سمجھت کی
ہے۔ امام حموی نے الریس بن سیمان سے امام شافعیؓ کا قول نقل کیا ہے۔ العلم علمن علم
الندین و علم الدنیا فالعلم الذی للدین الفقه، والعلم الذی هو للدنیا هو الطبیة
(علم دو ہیں، علم دین اور علم دنیا۔ علم دین تو علم فقرت ہے اور دنیا کے لئے جو علم ہے وہ علم طب
ہے)۔ دوسری روایت میں ہے۔ صفات لاغتنی للناس عنہا۔ الاطباء لا يبدون لهم داء العذاب
لاؤ دیا نہیں و مازال العذاب میرفت الطب و يستعدونه و مدارکے روایتیں اس لئے کے ہی
ناظم ہیں۔ اطباء علم صحت بدن کے لئے اور مدارک علم دین کے لئے۔ مدارک پہنچنے سے طب کی
صرفت حاصل کرنے رہتے ہیں۔ اور اسے استعمال میں لاقدرستہ ہیں میں یہ جملہ "العلم علمن علم
الادیات و علم الابدات" سند و روایت کے اعتبار سے طراہ کسی کا ہو، اسلامی تعلیمات میں
صحت کی اہمیت کا سچی معنود میں ترجیح ہے۔

ڈانتے ہیں۔ قرآن حکم کا حکم ہے۔ «وَلَا تُلْقِوَا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى التَّحْكِمَةِ» (۱۹۵: ۲) اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

بیماری انسان کے ذہنی و جسمانی قوی کو مغلوب کر دیتی ہے۔ اور اس کی تباہی دہلاکت پر منحصر ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی صحت و تندرستی کا خیال نہیں کرتا۔ اور بیمار ہو کر اپنا علاج نہیں کرتا تو وہ خود کشی کا مرندب ہوتا ہے۔ خود کشی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک باقاعدہ کی خارجی قوت سے شوری طور پر دفعتہ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا۔ اور دوسرے اپنے آپ کو اپنے حالات کے حوالے کر دینا جو نتیجہ ہلاکت کا سبب نہیں۔ نتیجے کے لحاظ سے دوفوں برابر ہیں۔ صحت کی حفاظت نہ کرنا اور بیماری کی صورت میں علاج نہ کرنا، خود کشی ہے۔ اور اسلام میں خود کشی حرام ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جاہل ہے اور اپنی جہالت کی پنا پر صحت و تندرستی کی حفاظت اور بیماری کی صورت میں اس کے علاج سے ناداقف ہے، تو اس صورت میں وہ معاشرہ جس کا وہ فرد ہے، اس جاہل شخص کی ہلاکت کا ذمے دار ہو گا۔ اس لئے نہ دعویٰ بالا آیت الچبہ بظاہر افراد کو خاطب کرتی ہے، لیکن اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ملک و معاشرے کو سی محیط ہے۔ امام حموی نے ایسی ہی صورت حال کے بارے میں لکھا ہے۔ «لَوْ قَالَ قَائِمٌ، لَا آتَى وَلَا اشْرَبَ - نَانَ اللَّهِ يَطْعَنُ وَلَيُسْتَغْنِي - لَكَانَ عَاصِيَا بِالْأَجَاعِ لَانَهُ خَالِفٌ مَوْضِعَ الْحَكِيمِ». اگر کوئی شخص یہ کہیے کہ نتو میں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، اللہ مجھے کھلانے کا اور پلانے کا تو ایسا شخص اجانتا گزنا گزار ہے۔ کیونکہ اس نے موضوع حکمت کی خلاف ورزی کی ہے۔ امام حموی اس کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لَا تَرْتَقِي لَنْفَسَهُ إِلَى التَّلْفِ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنِ الرُّجُلِ عَنِ ذَلِكَ^۱۔ کیونکہ ایسے شخص نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حلال نک اللہ عزوجل نے ایسا کرنے سے منع کر دکھا ہے۔ غیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۔ ابوالحسن علی بن عبدالکریم بن طرخان بن تقی الحموی علام الدین الحکمال، «الاحکام الشیعیۃ فی الصنایع الطیبۃ» طبع فی مصر ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۵ء جلد اول، ص ۱۷۵۔

محنت کی اسکی اہمیت کے پیش نظر فرمایا تھا۔ الطهور شطر الایمان۔ ٹھہارت (یعنی حقائق) محنت کے اصولوں پر عمل کرنا) نصف ایمان ہے۔

اسلامی تعلیمات میں علم طب اور حقائقِ محنت کی یہ اہمیت، ان خصوصیات میں سے ہے جن کی وجہ سے اسلام ادیانِ عالم پر فوقیت رکھتا ہے۔

محنت کی برقواری کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں محنت کی اہمیت مقاصدِ اسلام کا لازمی و

منطقی نتیجہ ہے۔ اسلام جن مقاصد کو لے کر آیا تھا، ضائع ہو جاتے، اگر ان کی حفاظت و تنفسیز کے لئے باصلاحیت، قوی، تند رست و قوانا افراد پر مبنی ایک جماعت وجود میں نہ آتی۔ اور محنت و تند رستی کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی جتنی کہ خود مقاصد کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:-
وَاعْدُوا لَهُمْ مَا سَطَعَتْ عَيْنُكُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُولَمَدْ لَا تَعْلَمُونَ لِغُمَّ اللَّهِ يَعْلَمُ لِغُمَّهُمْ ۝ اور (رسالانہ) جیسا تک تہارے بس میں ہے ہر قسم کی قوت پیدا کر کے اور سرحدی حفاظت کے لئے گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لئے اپنا سارو سامان مہیا کئے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی رہائش بھائے رکھو گے۔ اور ان کے علاوہ ان دوسرے دشمنوں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔

محنت کی مسلطانی کا حق ہے۔ اس آیت میں مخفیاً محنت و تند رستی کی برقواری اور قوت و طاقت میں مسلسل اضافے کا حکم موجود ہے۔ اس میں "من قوہ" اور "من رباطِ القیل" کے

- ۵۔ صحیح مسلم کتاب الطہارة۔

۶۔ نزولِ قرآن کے وقت "وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل" سے مولادِ بھیثہ تیار رہنے والے گھوڑے تھے، لیکن دُخُورِ جدید میں ان سے مولادِ بھیثہ تیار رہنے والی بس تھیں، تو پہن، میک، ملاکا تھیں (یہ، میزائیل)، ایم، اب دوز کشتیاں اور دوسرے خود کار تھیاں تھیں۔ اور زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا اور جو نئے نئے ہتھیلہ اور سانوئنہاں جگہ ایجاد کرتے جائیں گے، "وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل" ان سب پر محيط ہو گا، اس مضمون میں جو چیزِ محنت و طب کے نقطہ نظر سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان رہائیل (بھیثہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر)

الناقد تابن خود ہیں۔ قوت ایسا جامع لفظ ہے کہ یہ مانی و مخنوی تمام قرقوں کو محیط ہے۔ لیکن افراد قوت کو بطور خاص اجھیت اس نئے حاصل ہے کہ دو اصل افراد ہی باقی قرقوں کے ذمہ دار ہستے ہیں، افراد کی ذہنی و جسمانی تدریستی وہ قوت ہے جو بے شمار دوسری تحقیقی قوتوں کی تحریم دیکھا ہے اور اس طرح قوت توہانی میں مسلسل اضافے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک غیر جانب دار پیروخ کے لئے یہ بات بڑی تعجب خیز ہو گی کہ اسلام نے صحت کی برق را اسی اعد قوت د توہانی میں اضافے کو اس وقت اہم قرار دیا جب کہ انسان کو اس کی اجھیت کا شور مکث تھا اسلام میں صحت کی یہ اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ تم دیکھتے ہیں کہ غیر اسلام نے انسان کے اس حق کو حال ہی میں ذمہ دست عوامی تحریکوں کے دباؤ کے نتیجے میں تشییم کیا، در نہ آج سے کچھ عرصہ پہلے فرم مسلم اقوام میں انسان کے اس بنیادی حق کا شور نہ کھینچیا۔

”اعد والهم ما استطعتم“ دغیرہ آیات سے مراد صفت چند فوجی سپاہیوں کی تیاری نہیں بلکہ اللہ کا یہ حکم پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو مخاطب کر رہا ہے، اور ہر فرد ملت کو دنایع اسلام اور اشاعت و تنفیذ احکام کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب تمام مسلمان بھیت مجوسی ہیں کیونکہ

قرآن حکیم شروع نے آخر تک ایسے ادامر و فواہی سے بھرا ہوا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو بجز متنبیات کے ان احکام کا مقابلہ بنایا گیا ہے۔ اس نئے جہاں تک فرائض کا تعلق ہے ہر مسلمان سے ان کی ادائیگی کا تقاضا کیا گیا ہے اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے ہر مسلمان کے حق کو تشییم کیا گیا ہے۔ اعد والهم ما استطعتم میں امت کے ہر فرد کو خطاب کیا گیا ہے اس نئے امت مسلم

(باقی حاشیہ) تمام ہتھیاروں کو بٹانے اور ان کو ترقی یافتہ شکل میں رکھنے کے لئے صحت مندوبلاغ اور ذمہ دست جسم کی اشد ضرورت ہے اور دوسرے ان تمام ہتھیاروں کے استعمال کے لئے انتہائی صحت مند توہانا افراد کی ضرورت ہے جو جہاد و قتل کے میلان میں ان سے بحاجتہ قائدہ اٹھا سکیں۔ بیلد اور گزند افراد ان کے تحمل نہیں ہو سکتے۔

کے ہر فرد یہاں پہنچت کی حفاظت کا فریضہ حاصل ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام پر جب خود عمل کیا اور پوری امت کو ان اصولوں کا کام بند بنایا، تو اس کے جو فردی نتائج برآمد ہوتے خود قرآن کے الفاظ میں یہ تھے: **یقانتون فی سبیل اللہ کا نہم مبنیات مرسوم**: وہ اللہ کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں کویا وہ سیسے پلانی برپی دیواریں۔

اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواحکاہم الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے اس فریضے یعنی حفظاءِ صحت پر خود کیسے عمل کیا اور سبیلیت سرہ اور ملکتِ اسلامیہ امت کو اس پر عمل کرانے کے لئے کیا کیا اقدامات کئے۔ یہ جائزہ دو حصوں پر مشتمل ہو گا:-
نہیں۔ وہ اقدامات جو حیات و صحت کی برقراری کے لئے ضروری ہیں۔ نہیں۔ وہ اقدامات جو قوت و توانائی میں مسلسل اضافے کے لئے لازمی ہیں۔ پہلے حصہ میں ہوا، روشنی، حرارت، پانی اور غذا سے بحث ہو گی اور دوسرا حصہ اسلامی ضابط صحت اور طبی ہدایات پر مشتمل ہو گا۔
ہوا، روشنی اور حرارت سے - بقائی حیات و صحت کے بنیادی جز، ہوا کے بارے میں دو باتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نہیں۔ ہوا کافی مقدار میں ہو، نہیں۔ ہوا صاف اور پاکیزہ ہو۔ ہوا کی کمی کا احتمال عام طور پر آبادیوں میں رہائشی مکانات اور انسانی اجتماعات میں ہوتا ہے۔ جہاں تک رہائشی مکانات کی طرز تغیر کا تعلق ہے، قرآن حکیم اس سلسلے میں چند اشارات دیتا ہے:-

۱۔ مُسْكِنٌ تَضَوَّنَهَا۔ ایسے مکانات جو (ہوا، روشنی، حرارت کی فراہانی کی وجہ سے) پسندیدہ ہوں۔

۲۔ مُسْكِنٌ فَيْسَةً۔ مکانات صحت بخش، ہوا دار، کھلے، صاف سترے اور پاکیزہ ہوں۔

۳۔ فِي مُسْكِنِهِمْ أَيْةً۔ جنپن عن پیغمبر و شمال مکانات جنپ کے دائیں بائیں تو شکاری، پاکیزگی، صفائی اور صحت کے لئے درخت پتے، بیزو اور باغات ہوں۔

۴۔ مبدلة طيبة۔ انتہائی صاف ستر، پاکیزہ، ہوا دار، روشن، کھلا ہوا مثالی شہر۔
۵۔ قریۃ کانت آمنۃ مطمئنة۔ پر امن محفوظ و مامون، شور و مل اور گندگ و خلالت
سے پاکیزہ مطمئن بستی۔

قرآن حکیم کے اس نقشے کے مطابق مسلمانوں کو صرف ایسے مکانات میں سکونت اختیار کرنی چاہیے جو ہوا دار، روشن، صاف سترے اور پاکیزہ ہوں اور جو کی خوشگواری، پاکیزگی، صفائی اور صحبت بخش فضا کو برقرار رکھنے کے لئے ان کے دامیں بائیں درخت ہوں، بجزہ اور باغات کی فراطانی ہو، اور اس فرض کے مکانات پر مشتمل محلے اور بیشان ایسی ہوں جو سکون اور پاکیزگی کے اعتبار سے قریۃ آمنۃ مطمئنة "کھلا سکیں اور ان پر سکون اور پاکیزہ، محلوں پر مشتمل ایسے شہر ہوں جو اپنی صفائی، سترانی، کشادگی، روشنی وغیرہ کے اعتبار سے "مبدلة طيبة" کہلانے کے صحیح معنوں میں مستحق ہوں۔

جہاں تک انسانی اجتماعات میں وافر ہوا کی دستیابی کا تعلق ہے اسلام نے اس طرف بھی توجہ دی ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماع عام طور پر نماز پنجگانہ، جحد، عیدین اور حج وغیرہ کے موقع پر ہوتے ہیں، اس مضم میں ادیانِ عالم میں یہ استیاز شاید صرف اسلام کو حاصل ہے کہ زمین اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ مسلمانوں کے لئے مسجدہ گاہ بنادی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر یہ امداد میں فرمایا کرتے تھے؛

میرے لئے ساری زمین سجدہ گاہ بنادی گئی ہے جہاں بھی کسی مسلمان کے لئے وقت نماز آئے وہیں پڑھ دیا کرے۔ ۱۳

مسلمانوں نے اسلام کی اسی وسعت نظری کی روشنی میں مساجد تعمیر کیں اور اس وقت وئے زمین پر سبیلی ہوئی صدیوں قدیم اور جدید مساجد اس بات کی گواہ ہیں کہ مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہیں دوسرے مذاہب کی حبادت گاہوں میں سب سے زیادہ دیجت، کشادہ، ہوا دار اور پر حفنا

۱۱- قرآن - ۲۲ : ۱۵ - ۱۲- قرآن - ۱۶ : ۱۱۲ -

۱۳- تحریر بخاری حصہ اول۔ کتاب التیم۔ حدیث نمبر ۶۰۳۔

ہیں اور صحت و صفائی کے اعتبار سے سب پر فوتویت رکھتی ہیں۔ نمازِ حق مکانہ اور نمازِ جمعہ مساجد میں ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن نمازِ عبادتی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھلے میلان کو ترجیح دیتے تھے۔ اجتماعِ حج کے لئے بیت اللہ میں تو سیمہ کا عمل تحریکِ اسلام میں مسلسل جائی۔ اے ادد آج بھی اس کی حدود میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اسلام کے طریقیِ حبادت میں صفت بندی اور صفوں کے درمیان سجدہ کے لئے ایک خاص فاصلہ کو صحت کے اصولوں کے پیش نظر اہمیت حاصل ہے۔ اسلام نے رہبانیت کی مذمت کی ہے، تبلیغ و تاریک گرو شہ تہائی جس طرزِ زندگی کا خاصہ ہے۔ اسلام نے "لارهبانیہ فی الاسلام" (اسلام میں رہبانیت نہیں) کے ذریعے اس سے منع فرمادیا۔

ہمارا گھر جزویات ہے لیکن گندمی اور کٹیف، ہوا کرنے اپنے کیا گیا ہے اور صاف اور پاکیزہ ہوا کو مرغوب مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پاک اور صاف ہوا کو "ریتیع طبیۃ" کہا ہم دیا گیا ہے۔ یعنی ایسی ہوا جو کثافتون اور گنگوہیوں سے پاک ہو اور مضر صحت اجزاء سے مبتلا ہو، حیا و حشش اور ضرر صحت ہو، موجب فرحت و انیباط ہو۔ اسلام نے صاف ستری اور پاکیزہ ہوا کو حفظ اعلانی تسلیم کی حد تک نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کے حصول کے لئے علاً اقسامات کے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی میں گندمی اور غلاتیں پیسوئے اور اسے برقرار رکھنے والے پر اللہ کی سنت کی دعید سنا ہے^{۱۵}۔ اس سلسلے میں اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے جنم کی ہلاکت خیزیوں کا اندازہ سلویں صدی میسوی میں لگایا تھا۔ تقویک کے جنم سے ہوا کام آؤ دہنا یقینی امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رفعہ جب مسجد کی دیوار پر تقویک دیکھا تو اس کے خبر کے پیشوں نظر صحابہ کرام کی موجودگی میں خود اپنے دست مبدک سے اسے کھڑک دیا اور اس جگہ پر شیر دھر کئے جانے پر آپ نے خوش کا انہصار فرمایا۔ اور ایک حکم کے ذریعے دیکھوں، فرخوں، فرخوں اور پیشوں دھر کئے جانے پر تو کئے سے منع فرمایا۔^{۱۶}

۱۴۔ قرآن ساہد ۴۷۔ ۱۵۔ حکمة المصايخ۔ حصلوں۔ حدیث بابر ۲۴۔

۱۶۔ مسیح بن مسیحی، کتاب بحقیقتہ، حدیث نبی و محدثین ۲۷۵۔ ۲۸۔ حکمة التنبیہ للساجد۔

ہوا کی صفائی کے لئے دو سلسلہ اعصر آنادی میں بنزو، درخشنا، پھول اور پرتو کو طیروں کی موجودگی ہے، ہم نے اور دیکھا کہ قرآن کریم میں جس مثالی شعر مبتدا "بید" کا ذکر ہے اس کی تجھیں خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے دائیں بائیں، باغات و بناات کی فراوانی ہے جو کے پھول چلتے اور سبزہ ہوا کو صاف اور پاکیزہ بناتے رہتے ہیں۔ صحت کے اسی اصول کے حسب شیخ شفیع نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسلمانوں کو چھپلدار اور سایہ طار درخت لٹکانے کا حکم دیا گی تھے شیخ شفیع میں نے کے نواحی میں باخباری، شجر کاری اور زراعت کی افزائش میں آپ گھری دلچسپی لیتے اور اکثر مساجد کے ملاوے باغات میں نماز ادا فرماتے ۔^{۱۹}

فطاکو صاف اور ہوا کو پاکیزہ رکھنے کے لئے خوبصور کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تین چیزیں مرغوب تھیں ان میں ایک خوبصورتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اسوہ کے ملاوے اجتماعی طور پر جمع کے روز مسجد میں خوبصور جلانے کا حکم دیتے تھے اور آپ کی ہدایت پر اگر تھی اور کافر جبلیا جاتا تھا۔ حضور صلیع کا اسوہ حسنہ اور آپ کے دوسرے اقدامات دراصل قرآن حکیم کی ان آیتوں کی عملی تفسیر ہے۔ یعنی آدم خذواز نیتكم عندک مسجد۔ (اور ہم نے حکم دیا تھا) اے اولاد آدم! عبادت کے ہر موقع پر زیب وزیست سے آرائستہ رہا کرو۔ قل من هرم زینۃ اللہ الکن اخر جل عبادۃ والطیبۃ من الہو ربک۔ (ایے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ) خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لئے پیدا کی ہیں، اور کھانے پینے کی اچھی چیزوں کس نے حرام کی ہیں؟ ۔^{۲۰}

اس وقت بخاری صنعتوں، کارخانوں اور ٹوپیوں کا وجود نہیں تھا۔ پھر بھی اسے ہی محاذرے میں کشفت ہوا (AIR POLLUTION) کے مفادات کے النداد کا خیال رکھا

۱۸۔ تحریک بخاری حصہ دوم، کتاب الادب، حدیث نمبر ۸۳۱۔

۱۹۔ مشکوٰۃ، جلد اول، حدیث نمبر ۶۸۳۔ ۲۰۔ مشکوٰۃ، جلد دوم، حدیث نمبر ۴۹۲۔

۲۱۔ سنت نسائی، کتاب المساجد۔ ۲۲۔ قرآن۔ ۲۰: ۲۔ ۲۳۔ قرآن۔ ۲: ۲۲۔

جاتا تھا۔ اس اجتماعی کوئی میں کثافت ہوا کا احتمال انسانی اجتماع مات ہی میں بھر سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکماً یہ تاکید فرمائی تھی کہ لوگ جمع کے اجتماع میں شامل ہونے سے پہلے عرض کر لایا کریں۔ اس اصول پر اتنی سختی سے عمل کرایا جاتا تھا کہ ایک وفی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بغیر عرض کی نماز جسے میں شرکیہ ہوئے تو ہمیں رسولین حضرت عمر فاروقؓ نے آپ سے اس کوتاہی پر جواب طلبی کی اور یاد دلایا کہ جبکہ میں شرکیہ ہونے کا طریقہ عہد رسالہ سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ حضورؐ نے مسجد میں حضیف اصرار یعنی اخراج ریج کرو دوسروں کے لئے موجب اذیت فرار دیا۔^{۲۴} کثافت ہوا کے اسلام کے نہ صرف اسلامی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا جس میں لہسن یا پیارہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گی تھا۔ اور ایک دوسرے حکم کے ذریعہ مسلمانوں کو بدایت کی گئی تھی کہ کوئی شخص بہاس یا جسم پر کوئی ایسی چیز لٹکا کر تیر آئے جس کی بدبو سے دوسروں کو متکلیف پہنچے۔^{۲۵} حضورؐ اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کثافت ہوا کے مضرات کے اسلام کا لکھنا اہتمام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی پنا پر آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اتباع سنت میں موجودہ کثافت ہوا کے اسباب و عوامل کا تجزیہ کریں اور ان کی روک خام کے لئے جدید ترین ذرائع کو استعمال میں لا کر اپنے ماحل اور معاشرے کو صاف سفر اور پاکیزہ بنائیں۔

پانچ۔ ہوا، روشنی اور حلات کے علاوہ بقاءِ حیات کے لئے پانی کی اہمیت ۷
اندازہ قرآن مجید کے اس بجھے سے لٹکایا جاسکتا ہے۔ وَ جعلنا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَ هُمْ نَمَّنَ سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔

قرآن مجید نے پاکیزہ شہروں اور طیب پانی کی بے حد تعریف کی ہے، جیسکے خلیفہ ناپاک اور پاکیزہ پانی کی مددست کی ہے۔ پاکیزہ کو ظاہر یعنی پاک اور مطہر یعنی درسری چیزوں کو پاک کرنے کے دلایا بیان کیا گیا ہے، فتح العلیہ و محمد بن علی نے پانی کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کی صفائی و عدم صفائی پر خاص توجہ دی ہے اور یہ عام اصول و ضریح کیا کہ جس پانی کی رنگت، برا با ذائقہ تبدیل

۲۴۔ شیخ بن حارثی، کتاب الوہبی، حدیث نمبر ۱۳۶۔

۲۵۔ شیخ بن حارثی، حصن اقلی، حدیث نمبر ۳۵۱۔

ہو جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں فقہاء کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام میں صاف پانی کو حنفیان صحت کے لئے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پانی کو صاف رکھنے کے لئے حضور صلعم نے کئی اდیلمات فرمائے۔ آپ نے حجム فرمایا کہ کسی محلے مکرے پانی میں ہر نہ لئے، دھونے یا پینے کے کام آتا ہو، کوئی غلط نہ پیشی جائے، اس میں پیشاب یا پاخانہ نہ کیا جائے۔ دیران اور بیکار پڑے ہوئے کنوں کا پانی نہ پیا جائے اور نہ ہی کسی دوسرے استعمال میں لا یا جائے۔^{۲۶}

غذا - بقائے حیات و صحت کے لئے تیسرا اہم چیز غذا ہے۔ غذا کے صنی میں اسلامی تعلیمات میں دو باتیں بڑی بنیادی ہیں۔ (۱) کیا کھایا جائے؟ (۲) کتنا کھایا جائے؟ - پہلے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل اهلِ کلم الطیبۃ: تمہارے لئے ہر وہ غذا جو طیب ہے حلال ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا: وَكُلُوا مِنْ أَعْمَالِ رَبِّكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ کے دینے میں سے حلال و طیب غذا کھاؤ۔

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ اسلام میں ہر وہ چیز جو حلال اور طیب ہو جائز ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اسلام میں کسی غذا کا محض حلال ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا طیب، پاکیزہ اور ساف ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر کوئی غذا جو فی نفسہ حلال ہو لیکن طیب نہ ہو تو اسلام میں ایسی غذا کا استعمال منوع ہے۔ قرآن عکیم میں اکثر جگہ حلال اور طیب چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حلال اور طیب کے بارے میں بحوری طرح واقفیت حاصل کی جائے۔

حلال سے مراد کسی چیز کا شرعاً اعتبار سے انسانی صحت کے لئے منید ہونا ہے جب کہ طیب سے مراد اس غذا کا ایسی حالت میں ہونا ہے جب کہ وہ حیاتین (VITALITY)

- ۲۶۔ البخاری۔ کتاب الوضوء۔ ۷۲۔ البخاری۔

- ۲۸۔ تحریر بخاری، حسن رقم، بدرو الفتن۔ ۲۹۔ قرآن۔ ۵: ۳۳۔

- ۳۰۔ قرآن۔ ۵: ۸۸۔

سے بھر پیدا ہو، تازہ اور صحت بخش ہو۔ تازگی کے اعتبار سے جواں اور نفس دونوں کے لئے مرغوب ہو، پہلی ہوئے تو پچھے ہوئے اور تازہ ہوں، یعنی حال گروٹ اور بیزپوں کا ہے۔

دوسرا سوال، کتنا کھایا جائے؟ کے بارے میں فرمایا و سلووا اشربنا دلا
 تسری فوائد لا یحب المُنْذَنِینَ۔ کَمَّا دُعِيَ لِكِنْ (کھانے پہنچے میں) اسراف نہ کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے: دلاعت ددا ان اللہ لا یحب المُعْتَدِلِینَ: حدود سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا جگہ فرمایا: دلاعت بدیراً ان المُبَعَّذِرِينَ کافوا اخوان الشیطینِ: بے اعتمادی نہ کرو کیونکہ بے اعتماد لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کتنا کھانے کے باسے میں "اسراف، اعتماد، اور تبدیر" سے پرہیز کرنا قرآنی اصول ہیں۔ کھانے میں اسراف اور اعتماد کرنے والوں کو یہ دعید مُنْعَنی کہ وہ اللہ کی محبت سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مومن کا منتہی مقصود رضاۓ الہی کا حصول ہے اور ان اصولوں کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا اپنے مقصود کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہنچوڑی اور زائد ضرورت کھانا، اسلامی تعلیمات سے انحراف کے بلا بار ہے۔ تیسرا آیت میں تو زائد از ضرورت کھانے والے کو حکم کھلا شیاطین میں سے قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رضاۓ رحمٰن اور رضاۓ شیطان کا تعلق بقدر ضرورت اور زائد از ضرورت کھانے سے ہے۔

اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات قابل توجہ ہیں۔

بہت کھانے والے سے اللہ کی پناہ مانگ۔ استعیذ را بالله من الرَّفِیْبِ۔

بھوک سے زیادہ کھانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یبغض الالک شبعہ فوک۔

کھانا اتنا کھایا جائے کہ ایک دو نو والوں کی بھوک رہ جائے۔

محلے میں ایک حصہ کھانے، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لئے چھوڑنا جائیجے۔

۳۱۔ قرآن۔ ۵: ۳۲۔ قرآن۔ ۵: ۸۷۔ ۳۳۔ قرآن۔ ۱۴: ۲۶۔ ۳۴۔

۳۵۔ سنن ترمذی۔ الباب الظرفۃ۔

مدد میں کا خوش بے اور رجیں اس کی نالیاں ہیں اگر مدد میک ہو تو رجیں بھی تھیک نہیں ہیں۔

مدد فائدہ ہو جائے تو رجیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ لئے

کافر سات آنکوں سے کھاتا ہے اور مون ایک آنت سے یہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات و ارشادات سے معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک صحت و بیماری کا اختصار معدے پر ہے اور معدے کی صحت و بیماری کا اختصار بقدر ضرورت اور نیا اُمر از ضرورت کھانے پر ہے۔ طب قدیم و طب جدید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علم طب کا پنچڑ ہے، بلکہ آپ نے معدے کو بیماری و تشدید کی بنیاد قرار دے کر تاریخ طب کو ایک نیا عنوان عطا کیا۔

صحت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے بحث کرتے ہوئے یہ بات خاص طور پر توجہ

طلب ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور طبی ہدایات کی چیزیت کیا ہے؟

قرآن و سنت کی یہ تعلیمات بظاہر محض اخلاقی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم عہد رسالت کو سامنے رکھ کر ان تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو معلوم ہو گا کہ ان کی چیزیت فرمائیں و قوانین کی تھی اور حضور اکرم صلیم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ حکم و قانون سمجھا جاتا تھا اور اس پر عمل کرنا معاشرے کی بہبود اور ضمیر کے اطمینان کا باعث ہوتا تھا۔ آج ان ہی اصولوں پر عمل کا سچ راستہ یہ ہے کہ ان کی بیمار پر ملک میں قوانین بنائے جائیں، جن کے پیچے اخلاقی اور تاریخی قوت موجود ہے۔ پہلے ابلاغ عام کے ذریعے ان کی خوب تشبیر کی جائے اور پھر ان کی خلاف مدنی کو قابل گرفت جنم قرار دیا جائے۔